

تصویر چسپاں کریں

نیشنل لائبریری اینڈ آرکائیو سینٹر، ایف۔ ۷ مرکز، اسلام آباد
(فارم درخواست برائے رکنیت)

۱۔ نام (Name) ----- ولدیت (Father's Name) -----

۲۔ پیشہ (Occupation) ----- شناختی کارڈ نمبر بمعہ کاپی (CNIC# with Copy) -----

۳۔ دفتر کا پتہ (Office Address) -----

۴۔ گھر کا پتہ (Residential Address) -----

۵۔ گھر کا ٹیلی فون نمبر (Tel. Residence) ----- دفتر کا ٹیلی فون نمبر (Tel. Office) -----

----- موبائل نمبر (Cell Number) -----

۶۔ رکنیت کی قسم (Type of Membership) -----

۱۔ انفرادی (Individual)

۲۔ ادارہ جاتی (Institutional)

۳۔ افراد باہم معذوری (Persons with Disability)

۴۔ اگر ہے تو، معذوری کی قسم (Type of Disability)

----- دستخط (Signature) -----

----- تاریخ (Date) -----

حوالہ گواہ برائے رکنیت (Reference for Membership)

۱۔ نام (Name) ----- ۲۔ پیشہ (Occupation) -----

۳۔ شناختی کارڈ نمبر بمعہ کاپی (CNIC # with copy) -----

۴۔ پتہ برائے رابطہ (Address) -----

----- دستخط (Signature) -----

----- تاریخ (Date) -----

برائے سرکاری استعمال (For Official Use)

----- ملاحظہ فرمائیے (Remarks) -----

----- دستخط چیف لائبریریئن (Signature of Chief Librarian) -----